



صبح



12:00
دوپہر



شام



سونے کے وقت



کھانے سے پہلے



کھانے کے بعد



حسب ضرورت



گولی 1



گولیاں 2



چائے کا چمچ



آدھی گولی



دوائی کو روشنی
سے محفوظ رکھیں



2-8°C
ریفریجریٹر میں
محفوظ کریں



غنودگی کا سبب ہو سکتی ہے



حاملہ ہونے کی
صورت میں
استعمال نہ کریں



سورج کی روشنی
سے پریز کریں



پورا کورس کریں



اچھی طرح ہلائیں



پورا نگل لیں/چبائیں مت



شراب نوشی سے
پریز کریں-



زیادہ پانی کے
ساتھ گھائیں



چبائیں



عورت کی شرمگاہ/اندام
نہانی کے استعمال کے لیے



سانس کے ذریعے لیں۔




آنکھوں کے استعمال کے لیے



ناک کے استعمال کے لیے



کان کے استعمال کے لیے



زبان کے نیچے رکھیں
یہاں تک کے مکمل کھل جائے



مقعد کے استعمال کے لیے



بیرونی استعمال کے لیے



صبح



12:00
دوپہر



شام



سونے کے وقت



کھانے سے پہلے



کھانے کے بعد



صبح



12:00
دوپہر



شام



سونے کے وقت



کھانے سے پہلے



کھانے کے بعد



صبح



12:00
دوپہر



شام



سونے کے وقت



کھانے سے پہلے



کھانے کے بعد